

# سند ولادت کا آرڈر دینا

نیو یارک سٹی محکمہ صحت اور حفظان ذہنی صحت (New York City Department of Health and Mental Hygiene) میں خوش آمدید

محکمہ صحت ان پانچوں برو میں پیدا ہونے والے ہر کسی کے لیے اسناد ولادت جاری کرتا ہے: Queens ,Manhattan ,Bronx ,Brooklyn ,Staten Island

## سٹر چھوڑ دیں

آن لائن یا بذریعہ ڈاک اپنی سند ولادت کا آرڈر کریں اور 30 دنوں میں اسے حاصل کریں۔ مزید جاننے کے لیے [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health) ملاحظہ کریں اور "order a birth certificate" (ایک سند ولادت کا آرڈر کریں) کو تلاش کریں یا براہ راست [vitalchek.com](http://vitalchek.com) پر جائیں۔ آن لائن آرڈر کرنے کے لیے آپ کو ایک ذاتی کریڈٹ، ڈیبٹ یا چیکنگ اکاؤنٹ درکار ہوگا اور اکاؤنٹ پر آپ کا نام ہونے پر ہی آرڈرز مکمل ہو سکتے ہیں۔

- آن لائن آرڈرز پر ہر سند کے لیے \$15 کی لاگت آتی ہے نیز ہر آرڈر کے لیے \$8.30 پروسیسنگ فیس لگتی ہے۔
- ڈاک والے آرڈرز پر ہر سند کے لیے \$15 لاگت آتی ہے۔ اس میں کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے۔

## بذات خود آرڈر

بذات خود آرڈر کرنے کے لیے مجھے کیا چیز درکار ہے؟  
آپ کو ایک حالیہ با تصویر ID یا پتے کے دو ثبوت درکار ہوں گے۔

### باتصویر ID کے اختیارات میں شامل ہیں:

- حالیہ ڈرائیور لائسنس یا غیر ڈرائیور ID
- IDNYC میونسپل ID
- جانب ID اور حالیہ تنخواہ کی پرچی
- یونیورسٹی یا کالج ID مع حالیہ نقل حرفی
- NYC MTA کا تخفیف شدہ کرایہ کارڈ
- حالیہ امریکی یا غیر ملکی پاسپورٹ یا پاسپورٹ کارڈ
- NYS کا بینیفٹ کارڈ مع تصویر
- مستقل اقامتی کارڈ
- ہمراہی کا ID مع حالیہ ریلیز کے کاغذات
- NYC Access-A-Ride (ایکسیس ایبے رائیڈ) کارڈ

### پتے کے اختیارات میں شامل ہیں :

- یوٹیلیٹی بل، جیسے آپ کا انٹرنیٹ، گیس یا بجلی کا بل
  - کریڈٹ کارڈ کے گوشوارے
  - سرکاری ایجنسی کی جانب سے آپ کے پتے پر ارسال کردہ ڈاک
- دونوں دستاویزات پر آپ کا نام اور پتہ موجود ہونا ضروری ہے اور اس پر 60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو۔ اگر آپ حالیہ باتصویر ID کی جگہ پتے کے دو ثبوت جمع کرواتے ہیں تو آپ کی سند آپ کو ڈاک سے بھیجی جائے گی۔

### فیس کتنی ہے اور میں کس طرح ادا کروں؟

- NYC کی سبھی اسناد ولادت اور وفات پر \$15 فی سند اور شناخت کی توثیق کے لیے \$2.75 یک وقتی فیس کی لاگت آتی ہے۔ مثلاً، ایک سند کی لاگت \$17.75 ہے۔ دو اسناد = \$32.75؛ تین اسناد = \$47.75؛ وغیرہ
- کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، چیک یا منی آرڈر سے ادائیگی کریں۔ ہم نقدی قبول نہیں کرتے ہیں۔

### میں سند وفات کا آرڈر کس طرح کروں؟

براہ کرم کسٹمر سروس ایجنٹ سے NYC کی سند وفات کی درخواست طلب کریں۔ سند ولادت کی لائن میں موجود کسٹمر سروس ایجنٹ آپ کے آرڈر میں آپ کی اعانت کرے گا۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کسٹمر سروس ایجنٹ سے بات کریں۔